

بینک الحبیب لمیٹڈ
بینک چارجز کاشیڈول
یکم جولائی 2022 سے 31 دسمبر 2022 تک

بین الاقوامی بینکاری

A درآمدات

I کیش لیٹرز آف کریڈٹ

AA. اوپننگ

سالانہ حجم / تقویمی سال کے دوران تکمیل شدہ کاروبار:

کم از کم	ہر اگلی سہ ماہی یا اس کا حصہ (کمیشن)	پہلی سہ ماہی
کم از کم 2100 روپے	0.25 فیصد	0.40 فیصد
کم از کم 2100 روپے	0.18 فیصد	0.30 فیصد
کم از کم 2100 روپے	0.10 فیصد	0.17 فیصد

a. 10 ملین روپے تک

b. 10 ملین روپے سے زائد سے 100 ملین روپے تک

c. 100 ملین روپے سے زائد

نوٹ: اگر دوران سال صارف / گروپ کے ایل سی کاروبار کا مجموعی حجم 200 ملین روپے سے تجاوز کرتا ہے تو درج بالا کمیشن مجاز عہدیدار سے منظوری حاصل کرنے کے بعد ایڈجسٹمنٹ سے مشروط ہے۔

وہی کمیشن ہوگا جوئی ایل سیز کے کھلنے پر قابل اطلاق ہے۔

درج بالا AA-I

1.00 فیصد 0.30 فیصد 1500 روپے

AB. زائد المیعا د ختم ایل سیز کی توثیق نو یا نئے بینیفیشری کو منتقل کرنا

II بارٹر امداد اقرضوں کے تحت ناقابل ادائیگی ایل سیز:

III تراجم:

a. اگر رقم اور / یا مدت ملوث نہ ہو

b. اگر رقم اور / یا مدت میں اضافہ ملوث ہو

IV ایل سی کی منسوخی کے چارجز

V ریٹائرمنٹ:

1 پوزیشن بلز:

میعاد مکمل پر

فی بل 1000 روپے اور اس کے علاوہ زائد کمیشن فی مہینہ 0.15 فیصد یا اس کا حصہ۔

پہلے سے وصول شدہ ایل سی کمیشن کی مدت ختم ہونے کے بعد کم از کم 1000 روپے

(درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز کم از کم 1000

روپے وصول کیے جائیں گے)

فی بل 1500 روپے فلیٹ

مارک اپ پی اے ڈی لوجمنٹ کی تاریخ سے یا ہمارے اکاؤنٹ کے پہلے سے ڈیبٹ

ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ کے ڈیبٹ ہونے کی تاریخ سے

ایل سی / معاہدے کے تحت پوزیشن بلز کی میعاد ادائیگی میں اضافہ

2 سائٹ:

ریٹائرمنٹ پر پی اے ڈی کے قابل اطلاق نرخ درج ذیل ہیں

a. پہلے دن سے لے کر بیسویں دن تک

b. اگلے اکیس دنوں سے پینتیس دنوں تک

c. لوجمنٹ کے پینتیس دنوں بعد

ریٹائرمنٹ تک فی دن 1000 پر 54 پیسے

ریٹائرمنٹ تک فی دن 1000 پر 60 پیسے

ریٹائرمنٹ تک فی دن 1000 پر 65 پیسے

(درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز سے کم از کم

1000 روپے وصول کیے جائیں گے)

کم از کم 1000 روپے یومیہ بل کی رقم سے قطع نظر

3. زائد المیعا د ایکسپشن کی سہولت

VI ان ورڈ غیر ملکی دستاویزی بلز:

- a. تمام ان ورڈ ٹرانزیکشنز اوپن ہینڈلنگ چارجز/ اکاؤنٹ
b. بنیادی ٹیکس، واپس کیے گئے آئٹمز/ بشمول کوریئر چارجز
c. تمام غیر ملکی بلز ٹرانزیکشنز/ بشمول معاہدہ / اوپن اکاؤنٹ کی ریٹائرمنٹ / ادائیگی
d. سوفٹ چارجز

VII درآمدات کے مقابل بیٹنگی ادائیگی

- a. سوفٹ ٹرانسفر
b. ڈیمانڈ ڈرافٹس
c. سروس چارجز

VIII کریڈٹ رپورٹس:

- a. غیر ملکی بینکوں کو، اُن کی درخواست پر
b. غیر ملکی بینکوں کو، صارف کی درخواست پر
IX معاہدوں کی رجسٹریشن کنسائنمنٹ کی بنیاد پر درآمدات کیلئے
a. معاہدوں کی رجسٹریشن کنسائنمنٹ کی بنیاد پر درآمدات کیلئے
b. درآمدات کے کوٹریکٹس کے رجسٹریشن میں تبدیلیاں
i. اگر رقم اور / یا مدت شامل نہ ہو
ii. اگر رقم اور / یا مدت میں اضافہ ہو

X ری امبرسمنٹ چارجز (ری امبرسنگ بینک کو قابل ادا)

XI بیچ کی ترسیل

- a. فُل سوفٹ لیٹر آف کریڈٹ
b. ایل سی میں ترمیم سوفٹ کے ذریعے

XII ڈسکریٹ دستاویزی ہینڈلنگ

XIII FoB کی بنیاد پر درآمد کے لئے فریٹ سرٹیفکیٹ کا اجراء

XIV درآمدات کے عوض فنانشل انسٹرومنٹ کا اجراء (ایف آئی)

XV بینک سے بینک کو ایف آئی کی منتقلی

XVI دیگر چارجز

B برآمدات

1. لیٹرز آف کریڈٹ

- a. ایڈوانسنگ - کسٹمرز کے لیے
b. امینڈمنٹ ایڈوانسنگ - کسٹمرز کے لیے

- c. برآمداتی ایل سیز کے تحت روپے بل میں ٹیکوس ایشن کرنا
d. تصدیق

e. برآمداتی ایل سیز کی منتقلی

- f. نان ریڈیڈنٹ روپے اکاؤنٹ سے دیگر مقامی بینکوں کو ادا کی جانے والی رقم کی ادائیگی
II اگر ایکسٹرنل ایل سیز کے تحت دستاویزات دیگر بینکوں کو ٹیکوس ایشن کے لیے بھیجے جائیں۔

- 1500 روپے
100 ڈالر (یا فارورڈنگ بینک کی طرف سے اس کے برابر کی غیر ملکی کرنسی)
(درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز کی شرح کے حساب سے کم از کم 1000 روپے وصول کیے جائیں گے)
1000 روپے (اوپر دیئے گئے پوائنٹ نمبر VI A، VIB اور VIC پر لاگو ہیں۔)

1500 روپے

500 روپے

0.15 فیصد - کم از کم 1500 روپے

غیر ملکی بینکوں سے یو ایس ڈالر 100
اصل پر بشمول 30 امریکی ڈالر یا اسکے مساوی پاکستانی روپے بطور سروس چارجز وصول کیے جائیں گے
0.20 فیصد فلیٹ، کم از کم 2000 روپے

1000 روپے (فلیٹ)

1000 روپے علاوہ کمیشن درج بالا IXA کے مطابق

اصل

1800 روپے

750 روپے

80 امریکی ڈالر (یا فارورڈنگ بینک کے)

1150 روپے فی سرٹیفکیٹ

100 روپے فی درخواست

500 روپے فلیٹ فی ٹرانزیکشن

سیکشن 'F' متفرق کے مطابق

1500 روپے بمعہ کوریئر چارجز اگر لاگو ہوں

2500 روپے بمعہ کوریئر چارجز

1000 روپے بمعہ کوریئر چارجز اگر لاگو ہوں

1500 روپے بمعہ کوریئر چارجز

0.30 فیصد - کم از کم 1000 روپے

کم از کم 1250 روپے یا 0.40 فیصد فی سہ ماہی، جو بھی زیادہ ہو

زیادہ سے زیادہ - ہر کیس کی بنیاد پر

1500 روپے

550 روپے

1200 روپے

II ان ورڈ کلین کلکیشن

یو ایس ڈالر 6 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی

D. ترسیلات - غیر ملکی

I آؤٹ ورڈ

a. ڈیمانڈ رافٹس

b. ایف ٹی

c. ایف ڈی ڈی کی منسوخی

d. ایف ڈی ڈی کی ادائیگی روکنا

یو ایس ڈالر 18

یو ایس ڈالر 35

یو ایس ڈالر 10

یو ایس ڈالر 6 کے علاوہ اصل پر غیر ملکی بینک کے چارجز

II ان ورڈ

a. ڈی ڈی / ٹی / ایم ٹی

کوئی چارجز نہیں

1 فیصد کمیشن

III غیر ملکی ٹریولرز چیکس کا اجراء

E فارن بلز کی خرید

I غیر ملکی کرنسی انسٹرومنٹس:

چیکس، ڈرافٹس، ٹیسز، آئی ایم اوز وغیرہ۔ اکاؤنٹ میں کریڈٹ کے لیے خریدے گئے

او۔ ڈی بانگ ریٹ لاگو ہوں گے۔ اگر 12 دن کے اندر بل کی ادائیگی نہیں ہوئی تو 12

دن بعد کسی بھی تاخیر کے لیے فی دن 1000 روپے پر 50 پیسے بشمول 50 روپے

ہینڈلنگ چارجز وصول کیے جائیں گے۔

متفرق سیکشن "F" کے مطابق

II دیگر چارجز

F. متفرق:

I کورس پونڈس کے چارجز

II پونج / کوریئر اسونفٹ چارجز کی وصولی درج ذیل کی جائیں گی:

اصل

200 روپے

i. 2800 روپے

ii. جہاں کوریئر کمپنی کی جانب سے کوریئر چارجز براہ راست ڈیبٹ ہوئے ہوں کسٹمر کے

اکاؤنٹ سے تو بطور سروس چارجز 150 روپے چارج کئے جائیں گے۔

1000 روپے فی پیغام

پونج
کوریئر

سونفٹ

ہر صارف سے 60 امریکی ڈالر یا اس کے مساوی پاکستانی روپے وصول کیے جائیں

III غیر ملکی خریداروں / سپلائرز کی کریڈٹ رپورٹ

275 روپے

IV دیگر بینکوں سے ٹیسٹ کی تصدیق کے چارجز:

V غیر ملکی زرمبادلہ کی ٹرانزیکشنز کی ترسیلات زر کیلئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے منظوری کیلئے، 1500 روپے فی کیس

جہاں ضرورت ہو

اندرون ملک بینکاری

A. ترسیلات زر:

a. بینکرز چیک کا اجراء 300 روپے (تعلیمی اداروں، ایچ ای سی/ بورڈ وغیرہ کی فیس/ واجب الادا رقم کیلئے بینکرز چیک/ ڈیمانڈ ڈرافٹ پر فیس لاگو نہیں ہوگی)۔

b. ڈرافٹس، ایم ٹیز، ٹی ٹیز کا اجراء 0.12 فیصد - کم از کم 225 روپے

i. ہمارے کورسپونڈینٹ پر ڈرافٹ ہونے والے

c. فیکس / ٹی ٹیز پر سوئفٹ چارجز

d. پونچ

e. منتقلی بذریعہ آئی بی سی اے

f. (i) آن لائن ٹرانزیکشن جمع کروانا / رقم نکوانا

II ڈی ڈی / پی او / بینکرز چیک کی منسوخی کے چارجز

III ڈی ڈی کی ادائیگی رکوانا

IV ڈپلیکیٹ ڈیمانڈ ڈرافٹ

V ڈپلیکیٹ بینکرز چیک

B. اندرون ملک تجارت

I ساقط ایل سیز کی توثیق نو یا نئے بینیفیٹری کو منتقل کرنا

II اندرون ملک لیٹرز آف کریڈٹ کھولنے کا کمیشن

III اندرون ملک ایل سی دستاویزات میں غلطی کے چارجز

IV ایل سیز میں ترمیم

a. اگر رقم اور / یا مدت سے سروکار یا واسطہ نہ ہو

b. اگر مدت شامل ہو

c. اگر رقم میں اضافہ درکار ہو

V ریٹائرمنٹ:

1- مقامی ایل سی کے تحت مکمل میعاد پر بلز کی ریٹائرمنٹ

2- یوزنٹس بلز: میعاد پر

3 سائٹ

(i) ریٹائرمنٹ پر پی اے ڈی کے لیے قابل اطلاق نرخ درج ذیل ہیں

a. پہلے دن سے لے کر بیسویں دن تک

b. اگلے اکیسویں دن سے پینتیسویں دن تک

c. لو جمنٹ کے پینتیسویں دن کے بعد

VI کلکیشن

a. دستاویزی (ایل ڈی بی سی اور ایل ای ڈی بی سی)

b. کلین (بشمول چیکس)

c. رجسٹریشن کے ہینڈلنگ چارجز / اسٹینڈرڈ پرچیز آرڈر کی ادائیگی (ایس پی او)

VII اندرون ملک کی ایل سیز کے لیے نیگوسی ایشن

VIII بلز اور چیکس وغیرہ کی خریداری:

a. دستاویزی بلز علاوہ اُن کے جو ایل سی اور کلین بلز / ٹریڈ چیکس پر ڈرا کیے گئے ہوں

b. دیگر چیکس / ڈیمانڈ انسٹرومنٹ (جیسے ڈیوڈنڈ وارنٹس)

تمام بلز کی ریٹائرمنٹ پر (یوزنٹس اور سائٹ) 0.05 فیصد سروس چارجز 500 روپے فی بل، زائد کمیشن کی شرح کے مطابق 0.10 فیصد فی مہینہ یا اس کا کچھ حصہ پہلے سے کورڈ ایل سی کمیشن کی مدت کے بعد پی اے ڈی لو جمنٹ کی تاریخ سے لاگو شرح منافع

ریٹائرمنٹ تک 1000 پر 46 پیسے فی دن

ریٹائرمنٹ تک 1000 پر 47 پیسے فی دن

ریٹائرمنٹ تک 1000 پر 50 پیسے فی دن

0.35 فیصد کم از کم 500 روپے بمعہ ادائیگی کرنے والے بینک کے چارجز 0.25 فیصد کم از کم 150 روپے، زیادہ سے زیادہ 600 روپے بمعہ ادائیگی کرنے والے بینک کے چارجز

250 روپے

بل کی رقم کا 0.25 فیصد بمعہ تصدیق شدہ نرخوں میں کمی

0.40 فیصد کم از کم 100 روپے بمعہ شرح سود سے 41 پیسے فی دن فی ہزار انسٹرومنٹ کی خریداری کی تاریخ سے لیکر انسٹرومنٹ کی وصولی بمعہ بینک چارجز انسٹرومنٹ کی خریداری کی تاریخ سے لے کر ادائیگی کی وصولی کی تاریخ تک 0.35 فیصد کم از کم 30 روپے، فی دن ہزار روپے پر 41 پیسے کا شرح منافع کے ساتھ، علاوہ ادائیگی کرنے والے بینک کے چارجز

IX بغیر ادائیگی واپس آنے والے مقامی بلز

500 روپے

X متفرق چارجز: درج ذیل کے مطابق جہاں قابل اطلاق ہوں (درج بالا I-VI)

زائد ہوں گے۔

a. کلکٹنگ بینک چارجز (اگر کلکٹنگ بینک، بینک الحبیب لمیٹڈ کے علاوہ کوئی دوسرا ہو) اصل علاوہ 50 روپے

50 روپے

b. بذریعہ فون / فیکس انسٹرومنٹس کی معلومات

c. انسٹرومنٹ واپس ہونے کے چارجز

دستاویزی کلکیشنز کے لیے

کلین کلکیشنز کے لیے

200 روپے بمعہ پوسٹ / کوریئر چارجز

50 روپے بمعہ پوسٹ / کوریئر چارجز

50 پیسے فی دن فی پیکٹ، کم از کم 50 روپے

d. اسٹورج چارجز

e. کوریئر چارجز:

60 روپے

- بینک الحبیب کی برانچوں کے لیے

125 روپے

- دیگر بینکوں کے لیے

C. فنانسنگ / ایڈوانسز

I درج ذیل چارجز، مارک اپ کے علاوہ اضافی لیے جائیں گے:

- منصوبے کی معائنہ اور جائزہ فیس

- قانونی اور انتظامی فیس

- متفرق چارجز (سیکیورٹی کو جانچنا اور اسکا مینٹنس)

II رہن اور ہائپوٹھیکیشن پرفنانس کے لیے

مختلف چارجز اور ہائپوٹھیکیشن نافذ ہو سکتے ہیں:

اصل

a. گودام کا کرایہ

اصل

b. گودام کے اسٹاف کی تنخواہیں اور مقدم کے چارجز

c. گودام کے معائنے کے چارجز:

i. میونسپل حدود کے اندر

ii. میونسپل حدود کے باہر

d. حوالے کرنے کے چارجز - اگر گودام کارکھوالا تعینات نہ کیا گیا ہو

e. اسٹاک کا معائنہ:

i اگر یہ معائنے بینک کی جانب سے مقرر کردہ ایجنٹس کریں

ii اگر یہ معائنے بینک کا اسٹاف کرے

اصل

(i) بلدیاتی حدود -/1000 روپے کے اندر

(ii) بلدیاتی حدود سے باہر -/2000 روپے فی معائنہ (45-30 دنوں میں زیادہ سے

زیادہ 1 مرتبہ)

نوٹ: بینک کے ایگزیکٹو/پیرونی اور اندرونی آڈیٹرز کے ذریعے سے گوداموں پر وقتاً فوقتاً

اچانک معائنے کی صورت میں چارجز نہیں ہونگے

اگر کوئی پارٹی کریڈٹ لائن کی منظوری حاصل کیے ہوئے ہو اور کمیٹیڈ کیے گئے کاروبار کو

پہنچانے میں ناکام ہو جائے تو بینک کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ متلافی کمیشن وصول

کرے جو کہ زیادہ سے زیادہ 5 فیصد کی شرح سے کاروبار میں خسارے کی حد تک ہو، وہ

کاروبار جو کہ پیشگی انتظام کے مطابق ہمارے ساتھ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہو۔

200 روپے فی ترسیل

g. پلیجڈ کے سامان پر ڈیلیوری آرڈر چارجز

f. کاروباری عہد اور معاوضہ کمیشن

(i.h) قانونی چارجز:

. اندرونی قانونی معاونت:

2000 روپے فی دستاویز

500 روپے

اصل

100 روپے فی رپورٹ

زائد المعیاد کی تاریخ / ادائیگی کی تاریخ تک میچورٹی سے 24% سالانہ

3750/- روپے فلیٹ فی NOC

. جائیداد کے دستاویزات کی نظر ثانی

. دیگر اداروں کی طرف سے جاری کردہ سیکورٹیز پر حق تصرف (لیین) کی نوٹنگ

. بیرونی قانونی معاونت:

III سی آئی بی رپورٹ چارجز

IV قرضہ جاتی سہولیات پر زائد المعیاد شرح (بشمول رعایت اور لیزنگ)

V مزید پروجیکٹس کیلئے انکے فکسڈ اور کرنٹ اثاثہ جات کے حصول کیلئے اضافی /

مساوی چارجز / سینڈ چارج صارفین / کلائنٹس کی درخواست پر NOC کا اجراء

(صارف کی درخواست پر)

VI اگر بینک کے افسران کو رہن کی واپسی کیلئے رجسٹر کے پاس جانا ہو تو ایسی

صورت میں ریڈمپشن فیس پارٹی سے وصول کی جائے گی

VII سیکورٹی آف آپیکس کمیشن (ایس ای سی پی) سے رجسٹریشن / ترمیم / سیٹیفیکیشن / اصل پر

ویکشین آف چارج اور ڈائریکٹر / چارج سرچ / سی ٹی سی وغیرہ

VIII کنٹرول اینڈ سیکورٹی دستاویزات پر اسٹیٹ ڈیوٹی ہر صوبے میں لاگو اسٹیٹ پیپر / چکنے والے ڈاک ٹکٹ کی اصل قیمت پر

ڈیوٹی ایکٹ کے مطابق

IX کمرشل وہیکل لیزنگ (CVLD کے ذریعے)

7500 روپے

اصل پر

واجب الادا رقم کا کل 1 فیصد

اصل پر

اصل پر

لیز رینٹل کی واجب الادا رقم کا 24% سالانہ

500 روپے

اصل پر

100,000 یا اصل پر جو بھی زیادہ ہو

اصل پر (صارف ادا کرے گا)

اصل پر

a پروسیسنگ فیس

b دستاویز کے چارجز

c ابتدائی تصفیے کے چارجز

d اضافی تخمینے کے چارجز

e تخمینے کے چارجز۔ گاڑی کی دوبارہ ملکیت

f تاخیر سے ادائیگی کے چارجز

g چیک واپس ہونے پر چارجز

h گاڑی کی رجسٹریشن / منتقلی کے چارجز

i دوبارہ ملکیت کے چارجز

j گاڑی کا ٹیکس

k قانونی چارجز

X۔ زرعی قرضہ جات

(i) تمام نئے / تجدید شدہ فارم اور نان۔ فارم لون

1500 روپے

3000 روپے

منظور شدہ رقم کا 0.1 فیصد زیادہ سے زیادہ 15000 روپے

اوپر دیئے گئے سلیب کے مطابق رقم

1.5 ملین تک کے قرضے

1.5 ملین سے زیادہ 3 ملین تک

3 ملین سے زیادہ

(ii) ٹریکٹرز کیلئے قرضہ

XI کارپوریٹ کریڈٹ

(ا) قرضے/بغیر قرضے کی سہولت

(i) نیا/تجدید شدہ

50 ملین تک کے قرضے

50 ملین سے زیادہ 100 ملین تک

100 ملین سے زیادہ 250 ملین تک

250 ملین سے زیادہ 500 ملین تک

500 ملین سے زیادہ

(ب) زائد المعیار قلیل مدتی سہولت

XII کمرشل کریڈٹ

(i) مالی نیا/تجدید شدہ

2 ملین تک کے قرضے

2 ملین سے زیادہ 5 ملین تک

5 ملین سے زیادہ 10 ملین تک

10 ملین سے زیادہ 20 ملین تک

20 ملین سے زیادہ 50 ملین تک

50 ملین سے زیادہ 100 ملین تک

100 ملین سے زیادہ

(ii) اضافہ / کمی / ای او ایل / ون آف ٹرانزیکشنز اور عارضی توسیع

(iii) قلیل المدت زائد المعیار قرضہ کی سہولت

XIII چھیل فنانسنگ

قرضے/بغیر قرضے کی سہولت

(i) نیا/تجدید شدہ

(ii) اضافہ / کمی / ای او ایل / ون آف ٹرانزیکشنز اور عارضی توسیع

XIV سال اینڈ میڈیم اینٹرپرائزز (ایس۔ ایم۔ ای)

قرضے/بغیر قرضے کی سہولت

(i) نیا/تجدید شدہ

مالی سہولت 10 ملین تک

مالی سہولت 10 ملین سے زیادہ

(ii) ایس ایم ای صارفین (ایس ایم ای اور ایم ای) کے واجب الادا چارجز

نوٹ: مندرجہ ذیل میں یعنی کنزیومر بینکنگ پروڈکٹس، چھیل فنانسنگ، کمرشل وہیکل لیننگ

کے علاوہ تمام ایس ایم ای پر ایس ایم ای SOC لوگو ہیں۔

D لاکر کی سہولیات

لاکرز چند ہی برانچوں میں دستیاب ہیں۔ اگر کسی ڈپازٹ کی ضرورت پوری نہیں کی جاتی تو موجودہ

اور نئے صارفین سے لاکر کی سالانہ فیس مدت شروع ہوتے وقت پیشگی وصول کی جائے گی

a کی ڈپازٹ

یا

b سالانہ فیس

c لاکر تزدانے کے چارجز

d لاکر کی چابی اور لاکر کی تبدیلی

10,000 روپے

25,000 روپے

70,000 روپے

80,000 روپے

100,000 روپے

زائد المعیار قلیل مدتی سہولت میں اسکی واجب الادا رقم پر 24% سالانہ کی شرح سے معاوضہ لیا جائے گا۔

2500 روپے

3000 روپے

5000 روپے

10000 روپے

20000 روپے

30000 روپے

50000 روپے

کوئی نہیں

زائد المعیار دایس ٹی ایف رقم پر 24% سالانہ کی شرح سے چارج کیا جائے گا

5000 روپے فلیٹ

کوئی نہیں

5,000 روپے

0.05 فیصد زبادہ سے زیادہ 50,000 روپے

24 فیصد ایس ٹی ایف سہولت کے عوض

چھوٹے لاکر کے لیے 35,000 روپے

درمیانے لاکر کے لیے 45,000 روپے

بڑے لاکر کے لیے 60,000 روپے

چھوٹے لاکر کے لیے 5,000 روپے

درمیانے لاکر کے لیے 6,250 روپے

بڑے لاکر کے لیے 7,500 روپے

5,000 روپے

2000 روپے فلیٹ

E. گارنٹیز

- I ابل آف لیڈنگ / ایئر کنسائمنٹ نوٹس کے بدلے میں شپنگ کمینیز / ایئر لائنز کو جاری کردہ گارنٹیز
- II ڈیوٹی کی ادائیگیوں کے بدلے میں کسٹم کے کلکٹر کو جاری کردہ گارنٹیز
- III دیگر گارنٹیز
- IV برآمد سے حاصل ہونے والی رقم و دھولڈنگ ٹیکس سے مستثنیٰ ہونے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جاری کردہ گارنٹیز
- V دیگر گارنٹیز بشمول موخر ادائیگیوں کی گارنٹیز سپلائر یا بائزر کریڈٹ / وصول کنندہ اسکیم کے تحت :
- a اُن کلائنٹس کے لیے جو 15 ملین روپے تک کی گارنٹی کی سہولت استعمال کر رہے ہیں۔ 0.40 فیصد فی سہ ماہی یا اس کا حصہ ، کم از کم 500 روپے فی سہ ماہی
- b اُن کلائنٹس کے لیے جو 15 ملین روپے سے زائد کی گارنٹی کی سہولت استعمال کر رہے ہیں۔ (کمپیڈ سالانہ کاروبار کی تکمیل نہ ہونے کی صورت میں درج بالا شرح (a) کا اطلاق ہوگا اور باقی رقم کا فرق وصول کر لیا جائے گا)
- VI گارنٹی لیٹر کے متن میں ترمیم (رقم اور مدت وہی رہے گی) ترمیمی کمیشن 1000 روپے
- VII ایل جی کی وصولی کے چارجز (کارپوریٹ کسٹمرز کی جانب سے گارنٹیز کی وصولی اور یہ سروس ان کے لئے ہے جنہیں قرضے کی سہولت میسر ہے) 1000 روپے فی انسٹرومنٹ / ایل جی
- VIII بینشٹری / اسائنٹی کی جانب سے ہماری ایل سی کے عوض ہینڈلنگ کمیژ کیلئے سروس 2500 روپے فلیٹ چارجز (بینک کے باہر سے یا دوسرے بینک سے دعویٰ وصول کرنے کی صورت میں صارف سے چارجز کی وصولی)
- نوٹس: رقم میں اضافہ ہو یا معینہ مدت میں، یکساں چارجز قابل اطلاق ہونگے۔ گارنٹی جاری ہونے کی تاریخ سے لے کر میعاد ختم ہونے تک گارنٹی کمیشن وصول کیا جائے گا۔

F. انویسٹمنٹ پورٹ فولیو سیکورٹیز اکاؤنٹ (IPS)

- (i) انویسٹمنٹ پورٹ فولیو سیکورٹیز 1200 روپے فی ٹرانزیکشن
- (ii) کسٹڈی اکاؤنٹ چارجز 2500 روپے فی ماہ

G. متفرق چارجز:

1. چیکس کی ادائیگی روکنا 500 روپے فی انسٹرکشن
2. لوژ چیکس کا اجراء 30 روپے فی چیک
3. بینک کو چیک وصول ہوں اور نا کافی رقم کے سبب بنا ادائیگی واپس ہونے پر 600 روپے یا اکاؤنٹ میں 600 روپے سے کم جتنی بھی رقم ہو
4. اسٹیٹنگ انسٹرکشن چارجز (پینشنر اکاؤنٹ کے لیے کوئی چارجز نہیں)
5. صارف کی درخواست پر ادائیگی کے حوالے سے اعتباری سرٹیفیکٹ کے اجراء پر 300 روپے فی انسٹرکشن بمعہ ترسیلات زر چارجز
6. صارف کی درخواست پر اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کے اجراء پر 400 روپے فی سرٹیفیکٹ
- (اگر صارف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھیجی گئی اسٹیٹمنٹ وصول نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے)
- (i) 6 ماہ تک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ 35 روپے
- (ii) 6 ماہ سے زائد عرصے کا اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ اضافی 35 روپے ہر 6 ماہ پر

7. اُسی دن، چیکس کلیئر ہونے کے چارجز
8. اُسی دن کا کلیئرنگ چیک جو ہم پر ڈرا ہوا ورنا کافی فنڈ کی صورت میں بغیر ادائیگی واپس ہو جائے

9. آن لائن، چیک واپس ہونے پر چارجز

10. دیگر بینکوں/بجٹ مرکز سے کوپرز پر منافع وصول کرنے کے کلیکشن چارجز

11. ادا کردہ چیکس کی فوٹو کاپیاں

12. ادا کردہ چیکس کی تصدیق کے حوالے سے سرٹیفکیٹ کا اجراء

13. چیک بک کے چارجز (پیشینہ اکاؤنٹ کے لیے مفت چیک بک)

14. کال ڈپازٹ رسید کے اجراء کے چارجز

15. کال ڈپازٹ رسید کی ڈپلیکیٹ کے چارجز

16. کال ڈپازٹ رسید کی منسوخی کے چارجز

17. اکاؤنٹ مینینٹنس سرٹیفکیٹ

18. انٹرنیٹ چیکس کی وصولی بذریعہ فنڈ

19. انٹرنیٹ (آؤٹ ورڈ)، چیک کی واپسی کے چارجز

20. بذریعہ پریم سسٹم تھرڈ پارٹی کے فنڈز منتقلی کی سیٹلمنٹ

- کم از کم قیمت کی حد 1,000,000 روپے اور زائد

- پیر سے جمعہ : صبح 9 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک

دوپہر 1:30 بجے سے دوپہر 3:00 بجے تک

دوپہر 3:00 بجے سے شام 4:00 بجے تک

- کم از کم قیمت کی حد 100,000 روپے

- پیر سے جمعہ : صبح 9 بجے سے شام 4:30 بجے تک

50 روپے فی ٹرانزیکشن (زیادہ سے زیادہ 10 سینٹ انسٹرکشنز بھیجی جاتی ہیں بذریعہ ایک ایم بی 102 میسج)

نوٹ: مزید ہدایات آنے تک اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے RTGS

چارجز ختم کر دیے ہیں، جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے PSD سرکل نمبر 2

بتاریخ 2020 کو جاری کئے گئے تھے۔ مستقبل میں لاگو ہونے والے چارجز فوری

طور پر مندرجہ بالا کے مطابق لاگو ہوں گے۔

21. بیرون ملک ملازمت کا سرٹیفکیٹ

22. ایکسپریس چیک بک (10 لیوز)

23. بیلنس کا سرٹیفکیٹ

24. پرانے ریکارڈ کے حصول کیلئے

1 سال تک

2 سال تک

3 سال تک

3 سال سے زائد

25. قومی پرائز بونڈ پر بینک چارجز - جیتی گئی رقم کے کلیم پر

26. CIT (کیش ان ٹرانزٹ) چارجز قومی پرائز بونڈ پر - جیتی گئی رقم کے دعوے پر

27. اسٹیٹ بینک آف پاکستان / نیشنل بینک آف پاکستان کے چیکس کے اجراء پر

ایجنٹ کلیئرنگ (صرف صارف کی درخواست پر)

28. SECP آن لائن پورٹل سروس چارجز

29. پروسیڈرینٹل نریشن سرٹیفکیٹ (پی آر سی) کے اجراء پر - ایک سال کے بعد

30. ڈوپلیکیٹ پروسیڈرینٹل نریشن سرٹیفکیٹ (پی آر سی) کے اجراء پر

کنزیومر بینکنگ پروڈکٹس

I. ذاتی قرضے کی سہولت

- پروسیڈنگ فیس
 - پینلنگی ادائیگی
 - تاخیر سے ادائیگی پر چارجز
 - جزوی ادائیگی کی فیس / چارجز
 - مقدمہ سازی / قانونی چارجز
 - قانونی دستاویزات / معاہدے کے اسٹیمپنگ چارجز
- II. کیش فنانس کی سہولت

- قانونی دستاویزات کی سہولت / معاہدے کے اسٹیمپنگ چارجز
 - پروسیڈنگ فیس
 - لی بن مارکنگ کے چارجز (بینک الحبیب کے علاوہ)
 - تاخیر سے کی گئی ادائیگی کے چارجز
- III. آٹو کے قرضہ جات

- پروسیڈنگ فیس
- نئی گاڑیوں کی
- درآمد شدہ / مرمت شدہ اور استعمال شدہ گاڑیوں کی
- جلد ادائیگی کی فیس / چارجز (پوری / جزوی)
- تاخیر سے ادائیگی کے چارجز
- چیکس کے بغیر ادائیگی / واپس ہونے پر چارجز
- دوبارہ قبضے میں لئے جانے پر چارجز (اندرون اور بیرون شہر)
- گاڑی کے معائنے / تفتیش کے چارجز
- گاڑی کے دوبارہ قبضے پر معائنے / تفتیش کے چارجز
- مقدمہ سازی / قانونی چارجز
- جزوی پری ہیمنٹ فیس / چارجز
- ذاتی، حادثاتی بیمہ
- گاڑی کی رجسٹریشن / ٹرانسفر چارجز / سیکورڈ ٹرانزیکشن رجسٹری
- ویز ہاؤس چارجز

IV۔ آٹو لیزنگ (بذریعہ کنزیومر بینکنگ ڈویژن)

- پروسیڈنگ فیس فی ٹرنچ
- قانونی دستاویزات / معاہدے کے اسٹیمپنگ چارجز
- جلد ادائیگی کی فیس / چارجز
- تاخیر سے کی گئی ادائیگی کے چارجز
- چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز
- دوبارہ قبضے میں لئے جانے پر گاڑی چارجز (اندرون اور بیرون شہر)
- گاڑی کے معائنے / تفتیش کے چارجز
- مقدمہ سازی / قانونی چارجز

V۔ ہاؤسنگ فنانس فیسلٹی (بشمول کیلگری II کے تحت رینو ایبل انرجی سولوشنز کیلئے قرضہ انفرادی افراد کیلئے)

- پروسیڈنگ فیس
- جلد ادائیگی کی فیس / چارجز (پوری / جزوی)
- تاخیر سے ادائیگی کے چارجز
- چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز
- جائیداد کے معائنے / تفتیش کے چارجز
- وکیل کی فیس
- آمدنی کے تخمینے کے چارجز / فیس
- دستاویزات / اسٹیمپنگ چارجز
- کوریر چارجز (فارن)

VI۔ ہاؤسنگ فنڈس کیلئے گورنمنٹ مارک اپ سبسیدی اسکیم (میرا پاکستان میرا گھر)

- پروسیڈنگ فیس
- قبل از وقت ادائیگی کی فیس / چارجز (پوری / جزوی)
- تاخیر سے ادائیگی کے چارجز
- چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز
- جائیداد کے معائنے / تشخیص چارجز
- وکیل کی فیس
- آمدنی کے تخمینے کے چارجز / فیس
- دستاویزات / اسٹیٹمنٹ چارجز
- کوریر چارجز (فارن)

5000 روپے
کوئی نہیں
1000 روپے
500 روپے
اصل
اصل
اصل
اصل
اصل

VII۔ پرائمری مسٹر یوتھ ہرنس پلان (اسال اینڈ میڈیم انٹر پرائزز)

- قانونی دستاویزات / معاہدے کے اسٹیٹمنٹ چارجز
- پروسیڈنگ فیس
- معائنے / تشخیص کے چارجز
- وکیل کی تشخیص فیس
- آمدنی کا تخمینہ

اصل
100 روپے
اصل
اصل
اصل

VIII۔ روٹن اپنا گھر (بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کیلئے ہاؤس فنڈس کی سہولت)

- پروسیڈنگ فیس
- قبل از وقت ادائیگی کی فیس / چارجز (پوری / جزوی)
- تاخیر سے ادائیگی کے چارجز
- چیک کی واپسی پر چارجز
- جائیداد کے معائنے / تشخیص چارجز
- وکیل کی فیس
- آمدنی کے تخمینے کے چارجز / فیس
- دستاویزات / اسٹیٹمنٹ چارجز
- کوریر چارجز (فارن)

4000 روپے
ایک سال کے اندر 1 فیصد، اسکے بعد کوئی چارجز نہیں
900 روپے فی تاخیر سے کی گئی قسط
500 روپے فی کیس
اصل
اصل
اصل
اصل
اصل

آئٹرنیٹ ڈیپوزی (ای ڈی سی) چینل

- فنڈز ٹرانسفر کی سہولت
انٹرنیٹ فنڈز ٹرانسفر بذریعہ ای ٹی ایم / انٹرنیٹ بینکنگ / موبائل بینکنگ

25,000 روپے فی مہینہ / فی اکاؤنٹ تک مفت آئی بی ایف ٹی۔
25,000 روپے فی مہینہ / فی اکاؤنٹ سے زائد اضافی رقم کیلئے، ٹرانزیکشن کی رقم کا
0.1 فیصد یا 200 روپے، جو بھی کم ہو، چارج کیا جائے گا۔

II۔ ای ٹی ایم

- ای ٹی ایم پن کا دوبارہ اجراء
- ای ٹی ایم سوچ ٹرانزیکشنز
- دیگر بینکوں کے ای ٹی ایم سے کیش نکالنے پر
- لوکل بیلنس معلوم کرنے کے چارجز
- ای ٹی ایم رسید کی پرنٹنگ کی صورت میں فیس

100 روپے
23.44 روپے فی ٹرانزیکشن
3.13 روپے فی ٹرانزیکشن
2.50 روپے فی ٹرانزیکشن

III۔ ویزا ڈیبٹ کارڈ

- سالانہ / متبادل - پرائمری
- سالانہ / متبادل - سلیمنٹری
- ای ٹی ایم بین الاقوامی کیش وڈ رال
- مقامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز
- بین الاقوامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز
- مقامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز
- بین الاقوامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز

سلور کارڈ کیلئے 1500 روپے، گولڈ کارڈ کیلئے 2000 روپے اور پلاٹینم کارڈ کیلئے 4500 روپے
سلور کارڈ کیلئے 1000 روپے، گولڈ کارڈ کیلئے 1250 روپے اور پلاٹینم کارڈ کیلئے 2500 روپے
3.5 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم
اصل
اصل
اصل
اصل
اصل

- h. بین الاقوامی سطح پر پبلینس اکوآری چارجز
i. ویزا آر بیٹریشن چارجز
j. بین الاقوامی ریٹیل خریداری اور ای کامرس ٹرانزیکشن
- 250 روپے
اصل
3.5 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم پر

IV. موبائل بینکنگ

موبائل بینکنگ پن کے دوبارہ اجراء پر

مفت

V. چائنا یونین پے

- a. سالانہ/متبادل - پرائمری
b. سالانہ/متبادل - سلیمنٹری
c. بین الاقوامی سطح پر ای ایم کیش وڈرال
d. بین الاقوامی سطح پر پبلینس اکوآری
e. بین الاقوامی ریٹیل خریداری اور ای کامرس ٹرانزیکشن
f. مقامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز
g. بین الاقوامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز
h. مقامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز
i. بین الاقوامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز
- 1500 روپے
900 روپے
3.5 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم پر
250 روپے
3.5 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم پر
اصل
اصل
اصل
اصل

VI. یونٹیبلز اور دیگر ادائیگیوں کیلئے چارجز

- A. ڈائریکٹ ڈیبٹ کی سہولت
a. ہر کامیاب ٹرانزیکشن پر
b. ناکافی فنڈز کی وجہ سے ناکامیاب ٹرانزیکشن
- 25 روپے
25 روپے

VII پے پاک

- a. سالانہ/متبادل
b. لوکل چارج بیک کی درخواست کے چارجز
c. لوکل ریٹریول کی درخواست کے چارجز
- 1100 روپے
اصل
اصل

نوٹ۔ تمام کرنٹ اکاؤنٹس پر پے پاک ڈیبٹ کارڈ پر جاری کرنے/سالانہ تجدید کی فیس معاف کرنے کے لیے، صارفین کو پچھلے/اگلے مہینے میں 25,000 روپے کا ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا، جیسا کہ ذیل میں بتایا گیا ہے۔

(i) نئے اکاؤنٹ ہولڈرز کو اگلے مہینے میں 25,000 روپے کا ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا، جب CPU کی جانب سے اکاؤنٹ کھولا جائے گا۔ (یہ اس وقت لاگو ہوگا جب اکاؤنٹ کھولنے کے فارم کے ذریعے درخواست دی جائے گی)۔

(ii) موجودہ اکاؤنٹ ہولڈرز کو پچھلے مہینے میں 25,000 روپے کا ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا۔ اگر سی پی یو سے درخواست پر کارروائی کے بعد پچھلے مہینے کی مدت (یعنی 30 دن) مکمل نہیں ہوتی ہے تو اگلے مہینے میں ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا چاہیے۔ (یہ اس وقت لاگو ہوگا جب الیکٹرانک درخواست فارم/کال سینٹر کے ذریعے ڈیبٹ کارڈ کے لیے درخواست دی جائے گی)۔

(iii) پے پاک ڈیبٹ کارڈ چارجز ان اکاؤنٹس پر لاگو نہیں ہوں گے جن میں بینک نے چارجز سے استثنیٰ دیا ہے۔

VIII. کریڈٹ کارڈ

- سالانہ۔ پرائمری
 - سالانہ۔ سپریمٹری
 - کریڈٹ کارڈ اے پی آر
 - حد سے زیادہ کی فیس
 - تاخیر سے ادائیگی کی فیس
 - کیش ایڈوانس فیس
 - کریڈٹ کارڈ پن کی تبدیلی کی فیس
 - چیک کے واپس ہونے پر فیس
 - فروخت کی رسید کی حصول کے چارجز (مقامی)
 - فروخت کی رسید کی حصول کے چارجز (بین الاقوامی)
 - غیر ملکی ٹرانزیکشن پر چارجز
 - کریڈٹ کارڈ کے متبادل کی فیس
 - ایس ایم ایس الرٹ سروس (ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے علاوہ)
- کیش منجمنٹ سروسز
- ملک بھر میں کلیکشن سولیوشنز (کارپوریٹس/ایس ایم ایز/ایف آئیز کے لیے)
 - بلک سیلرز/ادائیگیاں
 - ڈیویڈنڈ وارنٹس کی ادائیگی کا انتظام
 - کسٹمائزڈ ایم آئی ایس / رپورٹنگ
 - بینکرز ڈی ایٹو/فلوئینسز (آئی پی او/ایف ایس/رائٹ شیئرز وغیرہ)
 - دیگر کوئی سروس
 - الحیب جیمنٹ سسٹم (بلک ٹیمٹس)

نوٹ:

- حکومت کی جانب سے لاگو ٹیکسز/حکومتی ڈیوٹیاں ریکیولر چارجز کے علاوہ صارف سے چارجز وصول کئے جائیں گے، جہاں لاگو ہوں۔
- اسلامک بینکنگ کے صارفین پر اسلامک بینکنگ شیڈیول آف چارجز کے مطابق چارجز لگائیں گے۔
- پروسیسنگ کی غلطی کی صورت میں عائد ہونے والے چارجز واپس کر دیئے جائیں گے

UNSC ریزولوشنز کے تحت بلاکڈ/منجمد اکاؤنٹس یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان/قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے جاری کردہ دیگر ایس آر او کسی بھی قسم کے چارجز میں کسی بھی قسم کی کٹوتی سے مشروط نہیں ہوں گے۔

GEM - ٹیرف شیڈیول

انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر 2,000 روپے (بینک کی خدمات کے چارجز کی مد میں 1400 روپے، سی ڈی سی چارجز 400 روپے، یو آئی این چارجز 200 روپے) کارپوریٹ اکاؤنٹ ہولڈر 5,000 روپے	GEM(a) اکاؤنٹ اوپننگ (انفرادی) GEM(b) اکاؤنٹ اوپننگ (کارپوریٹ)
3 پیسہ یا 0.15 فیصد جو بھی زیادہ ہو	(c) بروکر چارجز
(ہر ایک خرید و فروخت کے سودے پر جو کہ اُسی کاروباری دن میں برابر نہ ہوا ہو)	GEM(d) فیسیلیٹیشن چارجز
سیکیورٹی ریٹ کمیشن (شرح) کم از کم زیادہ سے زیادہ	
(روپے میں) (روپے میں)	
199.99 تک 0.10 فیصد 0.01	
200 سے 399.99 0.075 فیصد 0.15	
400 سے زیادہ 0.05 فیصد 0.30	
شیئرز کے لئے 0.1000 فیصد سالانہ	(e) کسٹوڈیل چارجز
ٹی ایف سی 0.1000 فیصد سالانہ	
رائٹس کے لئے 0.1000 فیصد سالانہ	
شیئرز کے لئے 0.10 روپے فی شیئر	(f) نکلوانے کے چارجز
ٹی ایف سی کے لئے 50 روپے فی یونٹ	نکلوانے کی فیس (سی ڈی سی چارجز)
رائٹس کے لئے 0.10 روپے فی رائٹ	
رائٹ انٹیکٹمنٹ ڈپازٹ	
شیئرز/یونٹس/رائٹس کے لئے 0.50 روپے فی شیئر/یونٹ/رائٹ	نکلوانے کی کارروائی کی فیس (بینک چارجز)
شیئرز کے لئے 0.01 روپے فی شیئر	(g) جمع کروانے کے چارجز
ٹی ایف سی 0.01 روپے فی یونٹ	ابتدائی ڈپازٹ فیس (سی ڈی سی چارجز)
رائٹس کے لئے 0.01 روپے فی رائٹ	
شیئرز/یونٹس/رائٹس کے لئے 0.50 روپے فی شیئر/یونٹ/رائٹ	ڈپازٹ کی کارروائی کی فیس (بینک چارجز)
شیئرز کے لئے 0.010 فی شیئر	(h) شیئرز کی منتقلی کے چارجز/ان/آؤٹ
(کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ فیس بالترتیب 7 روپے سے 60,000 روپے ہوگی)	
شیئرز کے لئے 0.004 فیصد فی شیئر	(i) شیئرز پلچ فیس

(j) NCCPL چارجز

0.0025 فیصد فی شیئر

(k) UIN سالانہ چارجز (پہلے سال لاگو نہیں ہوگی) (NCCPL)

کارپوریٹ اکاؤنٹ 2500 روپے

انفرادی اکاؤنٹ 200 روپے

400 روپے

(ا) انفرادی اکاؤنٹ کیلئے سی ڈی سی ڈی لی اکاؤنٹ کھولنے پر سالانہ چارجز

(پہلے سال کیلئے لاگو نہیں) (سی ڈی سی چارجز)

چارجز وقتاً فوقتاً تبدیل ہو سکتے ہیں بینک شیڈول آف چارجز کے مطابق اور یہ اکاؤنٹ ہولڈر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان پر عمل کرے۔

تمام چارجز ناقابل واپسی ہیں جب تک کے بینک اس کے برعکس ظاہر نہ کرے۔

* لاگو حد 3 پیسہ فی حصص یا 0.15% سودے کی رقم پر جو بھی زیادہ ہو 2.5% تک اوپر ظاہر کئے گئے سودوں کی رقم کا۔

الحیب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ

A. متفرق چارجز

- i بینکرز چیک کا اجراء
- ii چیک بک چارجز
- iii چیکوں کی اسٹاپ پیمنٹ
- iv لوز چیک کا اجراء
- v ایس ایم ایس الرٹ سروس (ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے علاوہ)
- vi کم از کم بیلنس کے چارجز
- vii یوٹی بی/موبائل بل کی ادائیگی
- viii بینک الحیب لکسی بھی اکاؤنٹ میں فنڈز کی منتقلی
- ix اے ٹی ایم/انٹرنیٹ بینکنگ/موبائل بینکنگ

- 300 پاکستانی روپے
- 18 روپے فی لیف
- 500 پاکستانی روپے
- 30 روپے فی لیف
- 100 روپے ماہانہ فی اکاؤنٹ
- مفت
- مفت
- مفت

مفت 25,000 IBFT روپے تک فی مہینہ/فی اکاؤنٹ کے ذریعے انٹرنیٹ فنڈز کی منتقلی 25,000 روپے سے زیادہ کی اضافی رقم کی ٹرانزیکشن کے لیے فی مہینہ مہینہ (صرف PKR اکاؤنٹس کے لیے) فی اکاؤنٹ، 0.1 فیصد یا 200 روپے، جو بھی کم ہو وصول کیا جائے گا۔

- 500 پاکستانی روپے فلیٹ
- 300 پاکستانی روپے فی سرٹیفکیٹ
- 300 پاکستانی روپے فی انسٹرومنٹ
- 600 پاکستانی روپے فلیٹ
- 100 پاکستانی روپے فی سرٹیفکیٹ

- 35 پاکستانی روپے
- اضافی 35 پاکستانی روپے فی 6 ماہ

- 200 پاکستانی روپے
- (i) 2800 پاکستانی روپے
- (ii) اس میں کوریئر کمپنی کے سروس چارجز سمیت کوریئر چارجز کی کٹوتی صارفین کے اکاؤنٹ سے کی جائے گی۔ 150 پاکستانی روپے
- 1000 پاکستانی روپے فی پیغام
- مفت - تمام بین الاقوامی عہدوں کیلئے

- (a) - 18 امریکی ڈالر
- (b) - مفت - کرسپانڈنٹ بینک چارجز لاگو ہو سکتے ہیں۔
- (c) - 10 امریکی ڈالر
- (d) - امریکی ڈالر 6 پلس ڈرای بینک چارجز۔ اصل

کوئی نہیں۔

- 300 چارجز
- روایتی بینکنگ اکاؤنٹس پر 1 فیصد کمیشن

- 1,200 پاکستانی روپے فی ٹرانزیکشن
- 2,500 پاکستانی روپے ماہانہ

100 روپے۔

x اسی دن کلیئرنگ چیک چارجز

xi اکاؤنٹ میینٹیننس سرٹیفکیٹ

xii این ایف ٹی کے ذریعے انٹرنیٹ چیکس کلیکشن

xiii انٹرنیٹ چیک ریٹرن چارجز

xiv بیرون ملک ملازمت کا سرٹیفکیٹ

xv درخواست پر اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کا اجراء

(i) 6 ماہ تک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ

(ii) 6 ماہ سے زیادہ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ

xvi بین الاقوامی ڈاک/کوریئر/سوفٹ چارجز حسب ذیل وصول کیے جائیں گے:

ڈاک

کوریئر

سوفٹ

xvii ویکم پیک ڈیلیوری

B ترسیلات زر - غیر ملکی

I بیرونی

(a) - ڈیمانڈ ڈرافٹس

(b) - ایف ٹی ٹی

(c) - ایف ڈی ڈی کی منسوخی

(d) - ایف ڈی ڈی کی اسٹاپ پیمنٹ

II اندرونی

(a) - MT/TT/DD

(b) - فارن ٹریولرز چیک کا اجراء

C - انویسٹمنٹ پورٹ فولیو سکیورٹیز اکاؤنٹ (IPS)

(i) انویسٹر کا پورٹ فولیو سکیورٹیز

(ii) کسٹڈی اکاؤنٹ چارجز

D - اے ٹی ایم

(a) - اے ٹی ایم پن کا دوبارہ اجراء

(b) اے ٹی ایم سوئچ ٹرانزیکشنز

(i) دوسرے بینک کے اے ٹی ایم سے کیش نکلوانے پر

(ii) مقامی بینکس انکوائری چارجز

(iii) اے ٹی ایم اختیاری رسیدوں کی پرنٹنگ فیس

E. ویزہ ڈیپٹ کارڈ

a. سالانہ/متبادل/پرائمری

b. سالانہ/متبادل/سپلیمنٹری

(c) بین الاقوامی اے ٹی ایم اسے رقم نکلوانے پر

(d) مقامی چارجز کی واپسی کی درخواست کے چارجز

(e) بین الاقوامی چارجز کی واپسی کی درخواست کے چارجز

(f) مقامی ریٹریول کی درخواست کے چارجز

(g) بین الاقوامی ریٹریول کی درخواست کے چارجز

(h) انٹرنیشنل بینکس انکوائری چارجز

(i) ویزہ ثالثی چارجز

(j) بین الاقوامی ریٹیل خریداری اور ای کامرس ٹرانزیکشن

(F) الحیب روشن اپنا گھر

(a) - پروسیڈنگ فیس

(b) - ابتدائی تصفیہ فیس/چارجز (مکمل/جزوی)

(c) - دیر سے ادائیگی کے چارجز

(d) - ناکارہ/واپس کئے گئے چیکس پر چارجز

(e) - جائیداد کی تشخیص/تشخیصی چارجز

(f) - وکیل کی تشخیص کی فیس

(g) - آمدنی کے تخمینے کے چارجز/فیس

(h) - دستاویزات اور اسٹیمپ ڈیوٹی چارجز

(i) - کوریئر چارجز (غیر ملکی)

G - الحیب روشن اپنی کار

(a) - پروسیڈنگ فیس

(b) - ابتدائی سیٹلمنٹ فیس/چارجز (مکمل/جزوی)

(c) - تاخیر سے ادائیگی کے چارجز

(d) - ناکارہ/واپس شدہ چیکس پر چارجز

(e) - دوبارہ قبضے کے چارجز (شہر کے اندر اور باہر)

(f) - گاڑی کی تشخیص/تشخیصی چارجز

(g) - دوبارہ قبضہ شدہ گاڑیوں کی تشخیص/تشخیصی چارجز

(h) - قانونی چارہ جوئی/قانونی چارجز

(i) - جزوی ادائیگی فیس/چارجز

(j) - ذاتی حادثاتی بیمہ

(k) - گاڑی کی رجسٹریشن/ٹرانسفر چارجز/سیکیورڈ ٹرانزیکشن رجسٹری (STR)

(l) - گودام کے چارجز

(m) - کوریئر چارجز (غیر ملکی)

(n) - تصدیقی چارجز

23.44 روپے فی ٹرانزیکشن

3.13 روپے فی ٹرانزیکشن

2.50 روپے فی ٹرانزیکشن

سلور کارڈ کے لئے 1,500 روپے، گولڈ کارڈ کے لئے 2,000 روپے، پلائیم کارڈ

کے لئے 4,500 روپے

سلور کارڈ کے لئے 1,000 روپے، گولڈ کارڈ کے لئے 1,250 روپے، پلائیم کارڈ کے

لئے 2,500 روپے

ٹرانزیکشن کی رقم کا 3.5 فیصد

اصل

اصل

اصل

اصل

250 روپے

اصل

ٹرانزیکشن کی رقم کا 3.5 فیصد

4,000 روپے

ایک سال کے اندر 1 فیصد، اسکے بعد کوئی چارجز نہیں

تاخیر سے ادائیگی پر فی قسط 900 روپے

500 روپے فی کیس

اصل

اصل

اصل

اصل

اصل

7,000 روپے فلیٹ

کوئی نہیں

تاخیر سے ادائیگی پر فی قسط 1000 روپے

500 روپے فی کیس

100,000 روپے یا اصل میں جو بھی کم ہو۔

اصل

اصل

اصل

کوئی نہیں

کوئی نہیں

اصل

اصل، جہاں قابل اطلاق ہو۔

اصل

اصل

H گیٹ وے ٹوائیکوٹی مارکیٹ (GEM)

GEM (a) اکاؤنٹ کھولنا

(b) بروکر چارجز

GEM (c) فیسیلیٹیشن چارجز

(d) تحویل کے چارجز (مارکیٹ ویلیو)

(e) پیسے نکلوانے کے چارجز
پیسے نکلوانے پر (سی ڈی سی چارجز)

واپسی کی پروسیجرنگ فیس (بینک چارجز)

(f) ڈپازٹ چارجز
ابتدائی ڈپازٹ فیس (سی ڈی سی)

ڈپازٹ پروسیجرنگ فیس
(g) شیئر ٹرانسفر چارجز جمع کرنے یا نکلوانے پر

(h) شیئر پلج چارجز

(i) NCCPL چارجز

(j) UIN سالانہ چارجز (پہلے سال لاگو نہیں)

(k) سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ کھولنے کے سالانہ انفرادی اکاؤنٹ چارجز
(پہلے سال لاگو نہیں) (سی ڈی سی چارجز)

نوٹ: دیگر تمام فیسوں اور چارجز کے لیے، براہ مہربانی ہمارے بینک کاشیڈول آف چارجز ملاحظہ کریں۔

انفرادی (انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر روپے 2,000 (1400 روپے بینک کے سہولت
کاری چارجز، 400 روپے سی ڈی سی چارجز، 200 روپے یو آئی این چارجز)
کم از کم شرح 3 پیسے یا 0.15 فیصد، جو بھی زیادہ ہو (ہر ایسی خرید و فروخت پر جو اسی
دن کے دوران نہیں کی گئی ہو)

زیادہ سے زیادہ	کم از کم	کمیشن	سیکیورٹی ریٹ
(روپے میں)	(روپے میں)	(فیصد میں)	
0.15	0.01	0.10- فیصد	199.99 تک
0.30	0.15	0.075 فیصد	200-399.99
0.50	0.30	0.05 فیصد	400 سے زیادہ
			شیئرز کے لیے 0.1000 فیصد سالانہ
			TFCs کے لیے 0.1000- فیصد سالانہ
			رائٹس کے لیے 0.1000 فیصد سالانہ

شیئرز کیلئے - 0.10 روپے فی شیئر .
TFC کیلئے - روپے فی یونٹ 50 روپے
رائٹس کیلئے فی رائٹ 0.10
شیئرز/ یونٹس/ رائٹس کیلئے 0.50 فی شیئر/ یونٹ/ رائٹ
شیئرز/ یونٹس/ رائٹس کیلئے 0.50 فی شیئر/ یونٹ/ رائٹ

شیئرز کے لیے 0.01 روپے فی شیئر
TFCs کے لیے 0.01 روپے فی یونٹ
رائٹس کے لیے 0.01 روپے فی رائٹ
شیئرز/ یونٹس/ رائٹس کیلئے 0.50 روپے فی شیئر/ یونٹ/ رائٹ
شیئرز کے لیے - 0.010 فیصد فی شیئر
(کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ فیس بالترتیب 7 روپے اور 60,000 روپے ہوگی)
شیئرز کے لیے 0.004 فیصد فی شیئر
0.0025 فیصد فی شیئر
کارپوریٹ اکاؤنٹ 2500 روپے
انفرادی اکاؤنٹ 200 روپے
400 روپے